کاردار پروڈکشنز کا تیار کردہ

باپ رے باپ

बाप रे बाप

اداکاران

کشور کمار۔ چاند عثمانی۔ جانی واکر۔ جیون۔

الیاس۔ ایس۔ این۔ بینرجی۔ ماروتی

بیلا مصرا۔ میرادیوی

وغیرہ۔

قیمت ۱/

زمن اینڈ کو بکسیلرز دریبہ کلاں دہلی

سکھوری محبت کی لگن انسان کو کن راہوں پر لے جاتی ہے۔ یہ بتاتا ہے حتی ماگر کو معلوم نہ تھی۔ اور سدھی رانی جندا کی۔ ان دونوں کو تو پتے الگوتے بیٹے کمار کی محبت نے قریب قریب دیوانہ بنا ڈالا تھا۔ آگے پردہ پر دیکھیں۔

گانے

باپ رے باپ کے

گانا نمبر ۱

رات رنگیلی چمکے تارے آجا سجنوا پریم دوارے
میرے من میں آجا اِک پیار کی دُنیا بن کے سجنا
میرے نین سما جا خواب سنہرا بن کے سجنا
لاگے تو سے پریت گاؤں میں گیت، میرے من کے میت آجا۔ رات رنگیلی۔۔
چلے مست پون اِک نشہ سا چھائے سجنا سجنا
میری انکھین پھر بھی نیند نہ آئے سجنا سجنا
نین بیتے رین، ترسے یہ نین، میرا بن کے چین آجا۔ رات رنگیلی۔۔۔
میرا مچلو جیا ایک بات نہ میری مانی سجنا
میرے دل کی بتیاں ہائے کوئی کیا جانے سجنا
گلے بتیاں ڈار، من بدھ نگی ہار میرا اُلو نہ گار آجا۔ رات رنگیلی۔۔۔

گانا نمبر ۲۔ میں بھی جواں دل بھی جواں کیسی سُہانی رات ہے
تم پاس ہو کر دُور ہو یہ کتنے ستم کی بات ہے
میں عشق کا افسانہ ہوں تو شمع میں پروانہ ہوں
جانا جلانا چھوڑ دے اب عمر بھر کا ساتھ ہے
تم میری صبح شام ہو ہر درد کا آرام ہو۔ پھر میرے دل سے دُور کیوں دُور کیوں
ساجن تمہارا ہاتھ ہے ـــــ تم پاس ہو کر۔۔۔

اب مسکراؤ تو نہ ادا بجلی گراؤ تو ذرا، نظریں ملاؤ جانِ من جانِ من
ایسی بھلا کیا بات ہے ـــــ تم پاس ہو کر...
گانا نمبر ۱ :۔ کیسے دل یہ دیوانہ میرا درد نہ جانا
بیری بالما دیکھ لیا تیرا پیار رے
تجھ سے جھوٹا پیار جتا کے، من میں میرے آگ لگا کے
کس کے من میں بس گئے جا کے
کیا مجھ سے بہانا میرا درد نہ جانا ـــــ بیری بالما...
تجھ سے لگے اب آنکھ چرانے، ٹوٹ گئے سب سپنے سہانے
چھین لے جانے کے بہانے
کاہے آنمات نانا، میرا درد نہ جانا ـــــ بیری بالما...
پیار میں کیسی چوٹ یہ کھائی، کوئی نہ جانے پیر پرائی
رام دوہائی اب دوہائی ٹوٹا دل کا خزانہ، میرا درد نہ جانا
بیری بالما......
گانا نمبر ۲ لڑکا:۔ پھول سے گالوں پہ متوالی چالوں پہ
میں ہوں فدا او دلربا
لڑکی:۔ دن ہیں رسیلے رنگ رنگیلے نین نشیلے ہو
لڑکا:۔ پھول سے گالوں پہ......
لڑکی:۔ بہار آئی چمن میں کلی کلی کے لئے
ہزار پھول کھلے ہیں تیری خوشی کے لئے
لڑکا:۔ یہ تیرا پیار یہ تیری ہنسی یہ تیری نظر
بڑے حسین بہانے ہیں زندگی کے لئے
لڑکی:۔ دن ہیں رسیلے...... لڑکا:۔ پھولوں سے گالوں پہ...

لڑکی:۔ گیا قرار دِل بے قرار کے دن ہیں
اررے یہی تو محبت کے پیار کے دن ہیں

لڑکا:۔ تجھے سجاؤں سنواروں میرے قریب تو آ
یہ تیرے روپ یہ تیرے سنگار کے دن ہیں

لڑکی:۔ دن ہیں رسیلے ۔ ۔ ۔ ۔ لڑکا:۔ پھول سے گالوں پہ ۔ ۔ ۔

لڑکی: دِلوں کی جیت ہو ہاتھوں میں آتا ہاتھ رہے
میرے لبوں پہ تیرا نام تیری بات رہے

لڑکا:۔ چلے جوان بہاروں کے گیت گاتے ہوئے

لڑکی:۔ دن ہیں رسیلے ۔ ۔ ۔ لڑکا:۔ پھول سے گالوں پہ ۔ ۔ ۔

گانا نمبر ۲:۔ دیوانہ دِل گائے اب مجھ سے رہا نہ جائے
یہ وقت پیار کا دِن بہار کا جا کے پھر نہ آئے
مِٹ جائیگا جھگڑا سارا ہو بیگے ہم تم نو دو گیارہ
یہاں سے لسنبر گول کریں گے ہم پورے بارہ
مَیں نے کل کی ریل کے بمبئی میل کے ٹکٹ بھی کٹوائے
مَیں رومیو کا بھیس بنا کے چوکیدار سے آنکھ بچا کے
جیولٹ مَیں تجھے پکاروں آنگن میں آ کے
تو اپنے روم سے جھوم جھوم کے گیلری میں آئے
تیرا پیچھا کبھی نہ چھوڑوں پیار سے ہرگز منہ نہ موڑوں
ڈرتی ہوں قانون سے ورنہ سب رسمیں توڑ دوں
ہے خوف جیل کا کھیل میل کا ختم نہ ہو جائے
دیوانہ دِل گائے ۔ ۔ ۔ ۔

گانا نمبر ۳:۔ پیا پیا پیا میرا جیا پکارے

ہم بھی چلیں گے سیّاں سنگ تمہارے

لڑکا:۔ چھوری چھوری کا ہے ہمیں پکارے

تم تو بس گئی ہو گوری من میں ہمارے

لڑکی:۔ پیا پیا پیا

" یہ چھُپ چھُپ چھب ہم سے چھلے ہو کہاں سیّاں

مَیں لگوں تورے پیّاں نہ چھوڑو موری بیّاں

لڑکا:۔ یہ چھبی منواری یہ مُکھ گورا گورا

یہ دیکھ ایسے کہ جیا ڈولے مورا

لڑکی:۔ بھولے بھالے مینا میرے جانے کیا اشارے

لڑکا:۔ تم تو بسی ہو گوری ..... لڑکی:۔ پیا پیا پیا .....

لڑکی:۔ مَیں پیا توری چھایا میں سنگ سنگ ڈولوں

کہ جائے جہاں سیّاں مَیں ساتھ تیرے ہولوں

لڑکا:۔ یہ وقت من بھائی یہ دن مدماتے

وہ دیکھ گوری ہم تم چلے ہیں ہنستے گاتے

لڑکی:۔ میرے پیا تجھ سے جیا جھومے یہ نظارے

لڑکا:۔ تم تو بس گئی ہو گوری .....

گانا نمبر ۶:۔ تُو نہ بتا ہمیں سب ہے پتہ۔ دِل میں ہے کیا اتیرے دِل میں ہے کیا

تیرا جیا چاہے، ہو گوری گوری راتیں، چھوری چھوری ہم سے ہو تیری ملاقاتیں

پھر تیرے لب پہ ہوں میٹھی میٹھی باتیں، ہاں تو نہ بتا ہمیں

تیرا جیا چاہے ہو بادل بہکے بہکے

جھوم میں ناچیں گائیں ہم دور کہیں چل کے

دیکھے ہمیں دُنیا رہ جائے جی میں جل کے — ہاں تُو نہ بتا ہمیں

تیرا جیا چاہے ہم ڈالی ڈالی جھولیں
چوڑیں کیسی کلیاں ہم مِٹنے تارے چھو لیں
چھائے نشہ البیلا، ہم موج میں بھی دِل کا کہنا لیں ــ ہاں تُو نہ بتا چاہیں

گانا نمبر ۸: ــ پھوٹ آپس میں پڑی ہم کنوارے رہ گئے
سب براتی چل دیئے دولہا بیچارے رہ گئے
دل کیسے گلے جب کہ جوتا چلے ۔ ایسی شادی سے کہ ہم کنوارے بھلے
ہر جگہ سے نمونے منگائے گئے ساتھ گھوڑے گدھے سب بلائے گئے
ایسی شکلیں جنہیں دیکھ کر دل جلے ۔ دھینگا مستی ہوئی خوب جھگڑے ہوئے
آدھے ٹوٹے ہوئے آدھے لنگڑے ہوئے، یوں چلے جیسے رسی پہ طوطا چلے
ایسے گھونسے لگے ایسے ڈنڈے پڑے
سارے ارمان شادی کے ٹھنڈے پڑے
باپ دولت لٹا ہاتھ بیٹھا ملے

گانا نمبر ۹: ــ تم نہ آئے گھٹا غم کی چھانے لگی ۔ روٹھ کر چاندنی رات جانے لگی ۔
رات جاگی تو آنسو برسنے لگے، ہم تمہیں دیکھنے کو ترسنے لگے
اور ٹھنڈی ہوا دِل جلانے لگی ۔ روٹھ کر چاندنی رات جانے لگی ـ تم نہ آئے ۔۔
آرزوؤں کے جھونکے سہارے لئے، ایک ہم جاگتے ہیں تمہارے لئے
چاند تاروں کو بھی نیند آنے لگی ۔ روٹھ کر چاندنی ...... تم نہ آئے ...
اب نظر کیا ملائیں نظروں سے ہم، کیا کہیں ہائے جاتی بہاروں سے ہم
ہر خوشی ہم سے آنکھیں چرانے لگی، روٹھ کر چاندنی .... تم نہ آئے ....

گانا نمبر ۱۰: ــ اب یہ بتا جائیں کہاں قسمت کے ٹھکرائے ہوئے
غم سے گھبرائے ہوئے جینے سے اکتائے ہوئے ــ اب یہ بتا...
راستہ انجان منزل کا پتہ کچھ بھی نہیں

اپنی راہوں میں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں
غم کے یہ گھنگھور بادل ہر در تک چھائے ہوئے — اب یہ بتا...
اپنے ارمانوں کا لُٹتا کارواں دیکھا کئے
آشیاں جلتا رہا ہم بے زباں دیکھا کئے
چند آنسو رہ گئے پلکوں پہ تھرائے ہوئے — اب بتا...
کیا یہی دُنیا ہے اے دُنیا کے رکھوالے بتا
کیا یہی انصاف ہے اے آسماں والے بتا
جی رہے ہیں سینکڑوں جیسے سے شرمائے ہوئے — اب بتا...

گانا نمبر ۸ — جانے بھی دے چھوڑ یہ بہانا۔ تیرے لئے جیا ہے دیوانہ
رُت ہے جواں پیار کرلے — یہی ہے پیار کا زمانہ
جانے بھی دے....
آنکھ اُٹھا رات حسیں ہے۔ دیکھ مجھے ہوش نہیں ہے
دِل نہ دُکھا جیا نہ جلا۔ یوں نہ ستا پاس تو آ
جانے بھی دے....
دیکھ میرے ناز اُٹھالے۔ تیری ادا مار نہ ڈالے
دِل نہ دُکھا جیا نہ جلا۔ یوں نہ ستا پاس تو آ
جانے بھی دے....
آج تیرا ساتھ ملا ہے۔ سارا جہاں جھوم اُٹھا ہے
لب پہ ہنسی چھائی ہے خوشی۔ میں ہوں وہی تُو ہے وہی
جانے بھی دے....

(ختم شد)